

50732 - کیا بیوی کی طرح خاوند بھی بیوی سے نفلی روزے کی اجازت لے گا ؟

سوال

رمضان کے علاوہ باقی ایام میں عورت روزہ رکھنے کے لیے خاوند سے اجازت لیتی ہے؛ کیونکہ خاوند کا حق ہے کہ وہ جب چاہے بیوی سے ہم بستری کرسکتا ہے، اور بیوی کو اس کی اطاعت کرنی واجب ہے، تو کیا بیوی کو بھی یہ حق ہے کہ خاوند روزہ رکھنے سے قبل بیوی سے اجازت لے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اول:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کی موجودگی میں بیوی کو بغیر اجازت روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"عورت کے لیے حلال نہیں کہ اس کا خاوند موجود ہو اور وہ اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے"

صحیح بخاری حدیث نمبر (5195) صحیح مسلم حدیث نمبر (1026)

اور مسند احمد کے لفظ ہیں:

"عورت کسی ایک دن بھی خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی"

مسند احمد حدیث نمبر (9815) علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح الترغیب حدیث نمبر (1052)۔

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

یہ نفلی اور مندوب روزے پر محمول ہے، جس کے لیے کوئی معین وقت نہیں، اور یہ نہیں تحریم کے لیے ہے، ہمارے اصحاب نے یہی بیان کیا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ خاوند کو سب دنوں میں بیوی سے استمتاع یعنی نفع حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، اور اس میں اس کا حق فوری طور پر واجب ہوتا ہے، لہذا وہ نفلی روزے سے فوت نہیں ہو سکتا، نہ ہی واجب میں تاخیر سے"

شرح مسلم (7 / 115) .

دوم:

اور عورت کے لیے نہیں اور مرد کے لیے نہیں کے وارد نہ ہونے کے سبب سے یہ حکمت استنباط کی جا سکتی ہے کہ:

1 - بیوی کے مقابلے میں خاوند کا حق بیوی پر زیادہ متاكد ہے، لہذا اس میں خاوند کو بیوی پر قیاس کرنا صحیح نہیں.

ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

" خاوند کا بیوی پر حق بیوی کے حق سے زیادہ عظیم اور بڑا ہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے.

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عورتوں پر حق رکھا ہے " اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. انتہی

دیکھیں: المغنی لابن قدمہ المقدسی (7 / 223).

اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

" عورت پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد خاوند کا حق ہے، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی، کیونکہ خاوند کا اس پر عظیم حق ہے " انتہی

دیکھیں: مجموع الفتاویٰ الكبرى (3 / 144).

2 - غالب طور پر خاوند ہی جماع کا مطالبہ کرتا ہے، اور عورت مطلوب یعنی اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے، لہذا اکثر اور غالب خاوند کی رغبت ہی بیوی کی طرف ہوتی ہے، اس لحاظ سے یہ مناسب ہوا کہ عورت نفلی روزہ رکھنے سے

قبل خاوند سے اجازت لے ہو سکتا ہے، اسے اس کے ساتھ جماع کرنے کی رغبت ہو۔

2 - مردوں کی شہوت عورتوں کی شہوت سے زیادہ اور عظیم ہوتی ہے اس لیے مرد کو چار بیویاں کرنے کی اجازت ہے، اور عورتوں میں ایسا نہیں، اور نہ ہی انہیں اس کی اجازت ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد کی جماع سے صبر کرنے کی طاقت عورتوں سے کمزور ہے، اور اسی لیے انہیں اجازت لینے کا کہا گیا ہے اور جب خاوند جماع کا مطالبہ کرے اور بیوی اسے منع کر دے تو اس کے وعید آئی ہے۔

ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتا ہے، اور روزہ رکھتی ہوں تو میرا خاوند صفوان بن المعطل مجھ سے روزہ افطار کروا دیتا ہے، اور طلوع شمس سے قبل نماز ادا نہیں کرتا، راوی کہتے ہیں کہ صفوان ان کے پاس تھے وہ کہتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عورت نے کہا اس کے بارہ میں صفوان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے:

اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ کہنا کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتا ہے، یہ اس لیے کہ وہ دو سورتیں پڑھتی ہے اور ہمیں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے، راوی کہتے ہیں، تو اس نے کہا اگر ایک سورۃ ہوتی تو لوگوں کو کافی تھی۔

اور اس کا یہ کہنا کہ: وہ میرا روزہ کھلوا دیتا ہے، کیونکہ وہ روزے رکھتی ہی جاتی ہے، اور میں جوان آدمی ہوں، صبر نہیں کر سکتا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا: خاوند کی اجازت کے بغیر کوئی عورت روزہ نہ رکھے۔

اور اس کا یہ کہنا کہ: میں طلوع شمس سے قبل نماز نہیں پڑھتا، ہم ایسے گھر والے ہیں جن کے بارہ یہ معلوم ہو چکا ہے، ہم سورج طلوع ہونے سے پہلے بیدار ہی نہیں ہو سکتے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم بیدار ہو جاؤ تو نماز ادا کر لیا کرو"

سنن ابو داؤد حدیث نمبر (2459) اس حدیث کو ابن حبان (4 / 354) نے صحیح کہا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے الاصابۃ (3 / 441) میں اور علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارواء الغلیل (7 / 65) میں صحیح قرار دیا ہے۔

شیخ محمد بن صالح العیثمین رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

اور خاوند کے بیوی پر حقوق میں یہ بھی ہے کہ:

بیوی کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے خاوند کا کمال استمتاع ہوتا ہو، حتیٰ کہ اگر یہ نفلی عبادت بھی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ اس کا خاوند موجود ہو اور وہ اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے، اور وہ خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے "

دیکھیں: حقوق دعت الیہا الفطرة و قررتها الشریعة (12) .

اور شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ تعالٰی کہتے ہیں:

عورت کے لیے خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے ؛ کیونکہ خاوند کو اس کے ساتھ معاشرت اور استمتاع خوشطبعی کا حق ہے، اور اگر وہ روزہ رکھی گی تو اسے اس کے حق سے روک رہی ہے، لہذا اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں، اور اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ صحیح نہیں ہو گا.

دیکھیں: المنتقی من فتاویٰ الشیخ الفوزان (4 / 73 - 74) .

4 - خاوند کے حقوق پورے کرنا، اور گھر کا خیال رکھنا، اور اولاد کی تربیت کرنا بیوی کے اوپر واجبات میں سے ہے، بعض اوقات خاوند بیوی کا نفلی روزہ رکھنے اور ان واجبات کے مابین تعارض دیکھتا ہے، اور عورتوں میں اس بات کا مشاہدہ بھی کیا گیا ہے۔ بلکہ بعض مردوں میں۔ کہ جب وہ روزہ رکھ لے تو سست ہو جاتی اور گھریلو واجبات میں کوتاہی کرنے لگتی ہے، اسی لیے اسے نفلی روزہ رکھنے کے لیے اجازت لینے کا کہا گیا ہے، لیکن فرض روزے میں نہیں.

5 - عام طور پر عادتاً خاوند کام کاج اور کمائی کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن عورت جس کا کام گھر میں ہے، تو اس کے لیے ضرورت نہ ہونے کی بنا پر خاوند سے اجازت لینا مشروع نہیں کیا گیا، لیکن عورت اجازت لے گی.

بہر حال شریعت کے احکام اور منہیات سب کے سب حکمت پر مبنی ہیں، اور مسلمان شخص پر واجب ہے کہ وہ یہی کہے کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، اصل میں مرد اور عورتیں احکام میں مشترک ہیں، لیکن جن میں اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کی بنا پر جس کا تعلق اس کی طبیعت اور خلقت کے ساتھ ہے اس میں فرق کیا ہے، یا پھر اس لیے کہ مومن کو آزمائے کہ کون سچا مومن ہے اور کون نہیں.

واللہ اعلم .